



VICTORIA POLICE



## لاپتہ شخص کی رپورٹ درج کروانا

اگر آپ کا کوئی واقف لاپتہ ہو تو پولیس  
سے مدد حاصل کرنا

اگر آپ کو کسی لاپتہ شخص کی سلامتی کے بارے میں فکر ہو تو  
آپ اپنی مقامی پولیس کو اس کی گمشدگی کی اطلاع دے سکتے ہیں  
جسے 'لاپتہ شخص کی رپورٹ' کہتے ہیں۔

کسی کے لاپتہ ہونے پر رپورٹ درج کروانے کیلئے  
24 گھنٹے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے۔

آپ فوری طور پر لاپتہ شخص کی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں۔

## آپ کی VICTORIA POLICE

- اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا اتہ پتہ معلوم ہو جس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی گئی ہے یا آپ کے پاس کسی لاپتہ شخص کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہیں تو Crime Stoppers پر **1800 333 000** کو فون کریں۔
- Victoria Police ایک مفت سماجی خدمت فراہم کرتی ہے۔
- Victoria Police کی جانب سے دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے ساتوں دن مدد دستیاب ہے۔
- وکٹوریا میں پولیس نیلی وردی یا سادہ لباس پہنتی ہے۔
- عوام واقعات کی رپورٹ درج کروانے یا مشورہ حاصل کرنے کیلئے پولیس سٹیشنوں میں جا سکتے ہیں۔
- جہاں عملی طور پر ممکن ہو، Victoria Police انٹریپرٹر فراہم کرتی ہے۔
- مقامی پولیس سٹیشنوں کے پتے اور فون نمبر یہاں دیکھے جا سکتے ہیں [www.police.vic.gov.au](http://www.police.vic.gov.au)۔



VICTORIA POLICE

[www.police.vic.gov.au](http://www.police.vic.gov.au)

## پولیس کے کیا کہنے کا امکان ہے

پولیس ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے جیسے 'غیر مشتبہ گمشدگی' یا 'غیر مشتبہ موت'۔ ان الفاظ کا مطلب ہے کہ آپ جس شخص کو تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی جرم کے نتیجے میں لاپتہ نہیں ہوا ہے۔ ممکن ہے ایک شخص کے لاپتہ ہونے کی وجہ تب تک معلوم نہ ہو پائے جب تک کہ گمشدگی کی وجہ واضح کرنے والا ثبوت نہ حاصل ہو جائے۔





## لاپتہ شخص کی رپورٹ کیسے درج کروائی جاتی ہے

کسی شخص کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کروانے کیلئے آپ کو اپنے مقامی پولیس سٹیشن جانا ہو گا۔

### پولیس آپ سے مندرجہ ذیل سوالات پوچھے گی:

- لاپتہ شخص کی شکل اور جسامت کیسی ہے؟
- کیا اس شخص کی شخصیت یا انداز میں کوئی غیر معمولی بات ہے؟
- کیا آپ کے پاس لاپتہ شخص کی کوئی تازہ تصویر ہے؟
- اس شخص کو آخری مرتبہ کب اور کہاں دیکھا گیا تھا یا آخری مرتبہ اس نے کب اور کہاں سے رابطہ کیا تھا؟
- کیا ایسی کوئی جگہیں ہیں جہاں لاپتہ شخص کے اکثر جانے کا امکان ہے؟
- کیا اس شخص کو کوئی طبی مسائل لاحق ہیں یا اسے ادویات کی ضرورت ہے؟
- اس شخص کے رشتہ داروں اور دوستوں کے نام اور فون نمبر کیا ہیں؟
- کیا لاپتہ شخص انگلش بول سکتا ہے؟



## کیا آپ کو رپورٹ درج کروانے کیلئے مدد کی ضرورت ہے؟

جہاں عملی طور پر ممکن ہو، آپ رپورٹ درج کروانے کے وقت اپنی ہی صنف کے پولیس افسر کی موجودگی کی درخواست کر سکتے ہیں۔

پولیس آپ سے آپ کا نام اور پتہ پوچھے گی تاکہ لاپتہ شخص کے بارے میں آپ سے رابطہ رکھ سکے۔

اگر انگلش آپ کی اولین زبان نہیں ہے تو پولیس آپ کو پیشہ ور ٹیلیفون انٹریپرٹ (مترجم) مہیا کر سکتی ہے جو رپورٹ درج کروانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ یہ سروس مفت ہے۔ ٹیلیفون انٹریپرٹ آپ کو پولیس کے زیر استعمال مخصوص الفاظ سمجھنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اگر ضرورت ہو تو آن سائٹ (آمنے سامنے ترجمہ کرنے والا) پیشہ ور انٹریپرٹ بھی مہیا کیا جا سکتا ہے تاہم یہ سروس پہلے سے طے کر کے ایسی تاریخ اور وقت پر حاصل کی جاتی ہے جو سب فریقوں کیلئے موزوں ہو جن میں پولیس، انٹریپرٹ اور رپورٹ درج کروانے والا شخص شامل ہیں۔



## کسی کو 'لاپتہ' کب تصور کیا جاتا ہے؟

### ایک شخص تب لاپتہ ہوتا ہے جب:

- پولیس کو اس کے بارے میں رپورٹ کی جائے اور اس کا اتھ پتہ معلوم نہ ہو؛ اور
- اس شخص کی سلامتی یا خیریت کے حوالے سے خدشات پائے جاتے ہوں۔

کسی کے لاپتہ ہونے پر رپورٹ درج کروانے کیلئے 24 گھنٹے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ فوری طور پر ایک شخص کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکتے ہیں۔